

## Mathematics 10th Class Unit 11 Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	ایک دائرے میں دو غیر متماثل مرکزی زاویوں کے سامنے والی قوسین..... بوتی ہیں	A. متماثل B. غیر متماثل C. متوازی D. عمودا
2	کسی دائرے میں 180 ڈگری کا مرکزی زاویہ بناتے والے وتر کی لمبائی بھیشہ ..... بوتی ہے	A. رادیسی قطع سے کم B. رادیسی قطع کے برابر C. رادیسی قطع خط پر دو گناہ D. ان میں سے کوئی نہیں
3	دائرے کے نصف محیط کا مرکزی زاویہ ----- بوتا ہے	A. 90 ڈگری B. 180 ڈگری C. 270 ڈگری D. 360 ڈگری
4	اگر کسی دائرے کی قوس 60 ڈگری ہو تو اس کے وتر کا مرکزی زاویہ..... ہوگا	A. 20 ڈگری B. 40 ڈگری C. 60 ڈگری D. 80 ڈگری
5	دو متماثل مرکزی زاویہ جن دو وتروں سے بتنے پیں وہ آپس میں ..... ہوتے ہیں	A. متماثل B. غیر متماثل C. متوازی D. منقطا
6	ایک قوس کا مرکزی زاویہ 40 ڈگری ہے تو اس کے متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ ----- ہوگا	A. 20 ڈگری B. 40 ڈگری C. 60 ڈگری D. 80 ڈگری
7	کس دائرے کی دو برابر قوسین میں سے ایک 30 ڈگری کا مرکزی زاویہ بناتی ہے تو دوسری کا مرکزی زاویہ..... ہے	A. 15 ڈگری B. 30 ڈگری C. 45 ڈگری D. 60 ڈگری
8	ایک دائرے میں وتر اور رداں کی لمبائیں برابر ہوں تو وتر سے بتنے والا مرکزی زاویہ ----- ہوگا	A. 30 ڈگری B. 40 ڈگری C. 45 ڈگری D. 60 ڈگری
9	دائرہ کے دو رادیسی قطعات اور ان سے متعلقہ قوس سے گھبرا بوا علاقہ کہلاتا ہے	A. دائرے کا سیکٹر B. قطعہ خط C. قطعہ دائرہ D. قوس
10	محیط کا تکڑا دائرے کی کہلاتا ہے	A. قوس B. وتر C. محیط D. ان میں سے کوئی نہیں
11	دائرے کا وہ تکڑا جو اسکی قوس اور متعلقہ وتر نے گھبرا بوا کہلاتا ہے	A. قطعہ دائرہ B. وتر C. محیط D. قوس
12	محیط پر یہی بوئے دو نقطے کو ملانے والا قطعہ خط دائرے کا کہلاتا ہے	A. محیط B. وتر C. قوس D. قطعہ دائرہ
13	کسی دائرے میں گومنے والے نقطہ سے اسی نقطہ تک بتنے والا راستہ کہلاتا ہے	A. محیط B. قوس C. قطعہ دائرہ D. دائرے کا سیکٹر
14	ایک دائرے میں دو غیر متماثل مرکزی زاویوں کے سامنے والی قوسین ..... ہوتی ہیں	A. متماثل B. غیر متماثل C. متوازی D. عمود
15	اگر ایک دائرے کا وتر مرکزی زاویہ $60^\circ$ بناتا ہے تب وتر اور رداں کی لمبائیں آپس میں ..... ہوتی ہیں	A. برابر B. غیر برابر C. متوازی D. عمود

